

Surah Al-e-Imran (Verse- 165-200)

Root Words

Meaning	ROOT WORD	WORD	AYAT
پہنچی تمہیں	ص و ب	أَصْبَبْتُكُمْ	165
اس سے دو گنی	م ث ل	مَثَلِيهَا	
اور وہ خود بیٹھ گئے	ق ع د	وَقَعَدُوا	168
پس دور کرو	د ر أ	فَأَذْرَءُوا	
خوش ہیں	ف ر ح	فَرِحِينَ	170
اور وہ خوش ہوتے ہیں	ب ش ر	وَيَسْتَبْشِرُونَ	
وہ ملے	ل ح ق	يَلْحَقُوا	
وہ ضائع کرتا	ض ي ع	يُضِيعُ	171
حکم مانا	ج و ب	أَسْتَجَابُوا	172
پس ڈرو ان سے	خ ش ي	فَأَخْشَوْهُمْ	173
جلدی کرتے ہیں	س ر ع	يُسْرِعُونَ	176
ہم ڈھیل دے رہے ہیں	م ل و	نُمَلِي	178
کہ وہ چھوڑ دے	و ذ ر	لِيَذَرَ	179
وہ چھانٹ دے	م ي ز	يَمِيرَ	
کہ وہ آگاہ کرے تمہیں	ط ل ع	لِيُطْلِعَكُمْ	
چن لیتا ہے	ج ب ي	يَجْتَبِي	
بخل کرتے ہیں	ب خ ل	يَبْخُلُونَ	180

عنقریب وہ طوق پہنائے جائیں گے	ط و ق	سَيُطَوَّقُونَ	
جلنے کا	ح ر ق	الْحَرِيقِ	181
بندوں پر	ع ب د	لِلْعَبِيدِ	182
کھا جائے اسے	ا ک ل	تَأْكُلُهُ	183
روشن	ن و ر	الْمُنِيرِ	184
دور کیا گیا	ز ح ز ح	زُحْرَحَ	
وہ کامیاب ہوا	ف و ز	فَازَ	
دھوکے کا	غ ر ر	الْغُرُورِ	
اور البتہ تم ضرور سنو گے	س م ع	وَلَتَسْمَعَنَّ	186
نجات (پانے والا)	ف و ز	بِمَفَازَةٍ	188
اور اختلاف میں	خ ل ف	وَأَخْتَلَفِ	190
عقل والوں کے لیے	ل ب ب	لِأُولَى الْأَلْبَابِ	
اور بیٹھے	ق ع د	وَقُعُودًا	191
رسوا کر دیا تو نے اسے	خ ز ی	أَخْرَيْتَهُ	192
ایک پکارنے والے کو	ن د و	مُنَادِيًا	193
ہماری برائیوں کو	س و ا	سَيِّئَاتِنَا	
تو رسوا کر ہمیں	خ ز ی	تُخْرِزَنَا	194
وعدے کے	و ع د	الْمِيعَادِ	
ہر گز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو	غ ر ر	يَغُرَّرَنَّكَ	196
ٹھکانہ ان کا	ا و ی	مَأْوَاهُمْ	197

ٹھکانہ	م ہ د	أَلْمِهَادُ	
مہمانی ہے	ن ز ل	نُزُلًا	198
تیار رہو	ر ب ط	رَابِطُوا	200

Surah An-Nisa (Verses- 1-23)
Root Words

Meaning	ROOT WORD	WORD	AYAT
اور اس نے پھیلا دیئے	ب ث ث	وَبَثَّ	1
اور عورتیں	ن س و	وَنِسَاءً	
تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو	س أ ل	تَسَاءَلُونَ	
اور رشتوں کو (کاٹنے سے)	ر ح م	وَالْأَرْحَامَ	
نگران	ر ق ب	رَقِيبًا	
گناہ	ح و ب	حُوبًا	2
پسند آئیں	ط ی ب	طَابَ	3
تم نا انصافی کرو	ع و ل	تَعُولُوا	
وہ خوشی سے دے دیں	ط ی ب	طِبْنَ	4
نادانوں کو	س ف ہ	السُّفَهَاءَ	5
اور پہناؤ انہیں	ک س و	وَأَكْسُوهُمْ	
پاؤ تم	أ ن س	أَنْسْتُمْ	6
تو دے دو	د ف ع	فَادْفَعُوا	
اسراف کرتے ہوئے	س ر ف	إِسْرَافًا	

جلدی کرتے ہوئے	ب د ر	بِدَارًا	
خوب حساب لینے والا	ح س ب	حَسِيبًا	
درست	س د د	سَدِيدًا	9
تاکید کرتا ہے تمہیں	و ص ی	يُوصِيكُمْ	11
حصہ ہے	ح ظ ظ	حَظًّا	
چھٹا حصہ ہے	س د س	السُّدُسُ	
وارث ہوں اس کے	و ر ث	وَرِثَةً	
تیسرا حصہ ہے	ث ل ث	الثَّلَاثُ	
کلالہ	ک ل ل	كَلَلَةً	12
نقصان پہنچانے والا ہو	ض ر ر	مُضَارًّا	
نافرمانی کرے گا	ع ص ی	يَعْصِي	14
بے حیائی کو	ف ح ش	الْفَحِشَةَ	15
توروک لوانہیں	م س ک	فَأَمْسِكُوهُنَّ	
کوئی راستہ	س ب ل	سَبِيلًا	
تواذیت دو ان دونوں کو	أ ذ ی	فَأَذُوهُمَا	16
تم روکو انہیں	ع ض ل	تَعَضُّوهُنَّ	19
گزر بسر کرو انکے ساتھ	ع ش ر	عَاشِرُوهُنَّ	
قابلِ نفرت	م ق ت	مَقْتًا	22
دودھ پلایا تمہیں	ر ض ع	أَرْضَعْنَاكُمْ	23